

لسانی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے طالبعلموں کیلئے زبان کی خصوصی تعلیم کے حق کے بارے میں معلومات

لسانی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے طالبعلموں کیلئے زبان کی خصوصی تعلیم کا حق پرائمری اور ہائی سکول کیلئے قانون تعلیم کے 2-8 §، ہائر سیکنڈری تعلیم کیلئے 3-12 § اور پرائیویٹ سکولوں کیلئے 3-5 § میں طے کیا گیا ہے۔

آپ کو ان صورتوں میں نارویجن زبان کی خصوصی تعلیم کا حق حاصل ہے جب:

- آپ کی مادری زبان نارویجن یا سامی کے علاوہ کوئی اور زبان ہو
- آپ نارویجن زبان کی ناکافی اہلیت کی وجہ سے نارویجن میں تعلیم حاصل نہ کر سکتے ہوں

یہ ایک عارضی بندوبست ہے جو آپ کو نارویجن کی اتنی اہلیت حاصل ہو جانے تک مہیا رہے گا جو عام تعلیم سے استفادہ کرنے کیلئے کافی ہو۔ نارویجن زبان کی خصوصی تعلیم ان طالبعلموں کیلئے اولین امدادی ذریعہ ہے جو نارویجن میں دی گئی تعلیم سے استفادہ نہیں کر سکتے۔

آپ کو درست تعلیمی پیشکش فراہم کرنے کی غرض سے سکول کیلئے ضروری ہے کہ آپ کی نارویجن زبان کی اہلیت کی جانچ کرے اور اس پر غور کرے۔

جانچ ان مواقع پر کی جائے گی:

• ہائر سیکنڈری سکول میں تعلیم شروع کرتے ہوئے

• تعلیم کے دوران تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا آپ کو نارویجن زبان کی کافی اہلیت حاصل ہو چکی ہے جس کے سبب نارویجن زبان کی خصوصی تعلیم روکی جا سکتی ہو

اگر ضروری ہو تو آپ کو مادری زبان کی تعلیم، دو زبانوں میں مضامین کی تعلیم یا ان دونوں کا حق بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ پیشکشیں اولین طور پر ملک میں نئے آنے والوں اور ان دوسرے اقلیتی طالبعلموں کیلئے ہیں جن کی نارویجن اتنی کمزور ہے کہ وہ نارویجن میں بالکل تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔

نارویجن زبان کی خصوصی تعلیم اور دو زبانوں میں مضامین کی تعلیم اسی سکول میں دی جائے گی جہاں آپ پڑھتے ہیں۔ مادری زبان کی تعلیم کسی اور سکول میں دی جا سکتی ہے۔ اگر مادری زبان کی تعلیم اور دو زبانوں میں مضامین کی تعلیم دینے کیلئے موزوں اساتذہ دستیاب نہ ہوں تو جس حد تک ممکن ہو، آپ کے امکانات و وسائل کے مطابق آپ کو دیگر مناسب تعلیم دینے کا انتظام کیا جائے گا۔

اگر آپ کو نارویجن زبان کی خصوصی تعلیم کا حق حاصل ہے تو آپ کو اپنی ضرورت کے لحاظ سے ہائر سیکنڈری سکول میں دو سال تک کا زائد وقت لینے کا حق بھی حاصل ہے۔

اگر جانچ کے نتیجے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نارویجن زبان کی خصوصی تعلیم کی ضرورت ہے تو آپ کو ایک خط ملے گا جس کا جواب دے کر آپ واضح کرنا ہو گا کہ آیا آپ یہ پیشکش قبول کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔

پرنسپال ایک فیصلہ تحریر کرے گا جس سے واضح گا کہ آیا آپ کو نارویجن زبان کی خصوصی تعلیم، مادری زبان کی تعلیم اور/یا دو زبانوں میں مضامین کی تعلیم کا حق حاصل ہے۔

اس سلسلے میں یہ ایک بنیادی امر ہے کہ نارویجن زبان کی خصوصی تعلیم ایک ایسا اقدام ہے جو آپ کو نارویجن کی کافی اہلیت حاصل ہو جانے پر روک دیا جائے گا۔

جو طالب علم 15 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا وہ تعلیمی پیشکش قبول کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہی اصول زبان کی خصوصی تعلیم کیلئے بھی ہے، دیکھیے بچوں کا قانون § 32۔

کیس کی کارروائی سے متعلق سوالات کیلئے آپ اپنے سکول سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

اگر بحیثیت طالب علم آپ خود یا آپ کے والد/والدہ اس فیصلے سے مطمئن نہ ہوں تو آپ فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔

یہ ضروری ہے کہ اپیل تحریری ہو اور اس پر دستخط ہوں۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ کے سرپرست اپیل پر دستخط کریں گے۔ اپیل سکول کے پرنسپل کو بھیجی جاتی ہے۔ اپیل میں یہ مختصر ذکر کرنا ضروری ہے کہ آپ کن معاملات کے خلاف اپیل کر رہے ہیں اور آپ کی رائے میں فیصلے میں کیا تبدیلی کی جانی چاہیئے۔ اپیل کیلئے بالا ترین اتھارٹی اوسلو اور آکرش ہوس کا کاؤنٹی کمیشنر (fylkesmannen) ہے۔